



کووڈ-19 کی عالمی وباء کے دوران برامپٹن میں وکٹوریہ ڈے 2021 کا انعقاد

برامپٹن، آن (9 مئی 2021) – وکٹوریہ ڈے لانگ ویک اینڈ، سر پر آن پہنچا ہے! وکٹوریہ ڈے بروز پیر مورخہ 24 مئی کو منایا جا رہا ہے۔

تمام ضروری اور فوری نوعیت کی خدمات، بشمول فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز، ٹریفک سروسز، ہائی لاء انفورسمنٹ، روڈ آپریشنز، مییکوریٹی سروسز، ہماری کمیونٹی کو معاونت فراہم کرنے کے لیے معمول کے مطابق اپنا کام جاری رکھیں گی۔

کسی بھی قسم کی انکوائری کے لیے رہائشی 311 پر یا 905.874.2000 (برامپٹن کے باہر سے) پر کال کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ برامپٹن 311 ایپ (ایپ اسٹور یا گوگل پلے پر دستیاب ہے) استعمال کر سکتے ہیں، www.311brampton.ca ملاحظہ فرما سکتے ہیں یا بذریعہ ای میل 311@brampton.ca بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہم سٹی آف برامپٹن یا ریجن آف پیل کے ہر قسم کے معاملات کے لیے 24/7 دستیاب ہیں۔ کووڈ-19 کے حوالے سے استفسارات کے لیے www.brampton.ca/COVID19 ملاحظہ کریں۔

فائر ورکس کی سیفٹی

وکٹوریہ ڈے سال کے ان چار چھٹیوں میں سے ایک ہے، جن کے دوران برامپٹن میں ذاتی املاک پر پرمٹ کے بغیر چھوٹی حد والی آتش بازی کی اجازت ہوتی ہے۔ ضمنی قانون کے تحت، کینیڈا ڈے، دیوالی اور نیو اینرز ایوو پر بھی آتش بازیوں کی اجازت ہوتی ہے۔

چھوٹی حد والی آتش بازیوں کی اجازت آتش بازیوں کے ضمنی قانون کے مطابق ہوتی ہے۔ چھوٹی حد والی آتش بازیوں وہ ہوتی ہیں، جنہیں جب چلایا جائے، تو وہ تین میٹر (10 فٹ) سے کم دوری تک جاتی ہیں (مثلاً فاؤنٹینز، ویلرز، گراؤنڈ سپنرز، سپارکلرز)۔ راکٹ کے انداز کی دیگر تمام آتش بازیوں میں ممنوع ہیں۔ سٹی رہائشیوں کو یاد دہانی کروانا ہے کہ سڑکوں، سائیڈ واکس، سٹی پارکس کے اندر یا میونسپل یا اسکول کی املاک پر آتش بازیوں استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے۔

نجی املاک پر چھوٹی حد والی آتش بازیوں کے استعمال میں، آپ کو ان حفاظتی تدابیر پر لازمی عمل کرنا چاہیے:

- پانی کا ایک برتن یا ہوز لائین دستیاب ہونی چاہیے، جو آتش بازیوں کو بجھانے کے لیے پانی سے بھرا ہو۔
- کبھی بھی اپنے ہاتھ میں سپارکلر کے علاوہ کوئی دیگر آتش بازی نہ جلائیں یا پکڑیں۔
- آتش بازیوں کو کبھی بھی دوسرے لوگوں پر نہ پھینکیں یا ان کی جانب موڑیں۔
- سپارکلرز کو استعمال کرنے کے بعد، پھینکنے سے پہلے پوری طرح ٹھنڈے ہونے کے لیے پانی کے کسی برتن میں ڈال دیں۔
- آتش بازیوں کو پھینکنے سے پہلے انہیں پوری طرح ٹھنڈا ہونے دیں۔

ہر سال، آتش بازیوں کے فروخت کنندگان کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ آتش بازیوں فروخت کرنے کا لائسنس حاصل کرنے سے پہلے سٹی کی جانب سے تربیت حاصل کریں۔ سٹی نے فروخت کنندگان کو بھی آن لائن تربیت کی پیشکش کی تھی۔ وکٹوریہ ڈے کے لیے کسی قسم کے فائر ورکس لائسنس جاری نہیں کیے گئے۔ اگر رہائشی اسٹورز یا برامپٹن میں دیگر کسی جگہ آتش بازیوں فروخت ہوتے دیکھیں، تو ان سے گزارش کی جاتی ہے کہ وہ برامپٹن 311 موبائل ایپ کے ذریعے، www.311brampton.ca یا 311 پر کال کر کے سروس برامپٹن کو اطلاع دیں۔

برامپٹن ٹرانزٹ

برامپٹن ٹرانزٹ، وکٹوریہ ڈے پر اتوار/چھٹی کے شیڈول کے مطابق کام کرے گی لیکن کچھ روٹس منسوخ کر دیے گئے ہیں۔ درج ذیل روٹس سروس فراہم کریں گے:

- 501 زوم کوئین
- 502 زوم مین
- 505 زوم بوویرڈ
- 511 زوم سٹیٹلز
- 1 کوئین
- 2 مین
- 3 مک لافنلن
- 4 چنگواکوسی



- 5 بویرڈ
- 7 کینیڈی
- 8 سنٹر
- 11 سٹیلز
- 14 ٹوربریم
- 15 برامیلا
- 18 ٹکسی
- 23 سینڈل ووڈ
- 29 ولیمز
- 30 اینرپورٹ روڈ
- 35 کلارک وے
- 50 گور روڈ
- 52 میک مرچی
- 53 رے سن
- 56 کنگ نول
- 57 شیرولیس
- 115 بیئرسن اینرپورٹ ایکسپریس

وکتوریہ ڈے کے موقع پر ٹرمینلز پر موجود کسٹمر سروس کاؤنٹرز بند رہیں گے۔ وکتوریہ ڈے کے موقع پر کنٹیکٹ سنٹر صبح 9 تا شام 6 بجے تک معاونت کے لیے دستیاب رہے گا مزید معلومات کے لیے کنٹیکٹ سنٹر کو 905.874.2999 پر کال کریں یا www.bramptontransit.com ملاحظہ فرمائیں۔

صفائی اور جراثیم سے پاک کرنے کی اضافہ شدہ کاروائیاں بدستور جاری رہیں گی۔ برامپٹن ٹرانزٹ نے تمام ٹھوس سطحوں، آپریٹر کے کمپارٹمنٹس اور سیٹوں کو ہر 48 گھنٹے کے بعد جراثیم سے پاک کرنے کا ہدف مقرر کیا ہوا ہے۔ زیادہ تر بسوں کو ہر 24 گھنٹے کے بعد جراثیم سے پاک کیا جا رہا ہے۔ جبکہ سہولت گاہوں اور ٹرمینلز کی ٹھوس سطحوں کی صفائی اور جراثیم سے پاک کرنے کا کام روزانہ کی بنیاد پر کیا جاتا ہے۔

سٹی مسافروں پر زور دیتا ہے کہ وہ ٹرمینلز اور بس اسٹاپس اور یہاں تک کہ ماسک پہنتے ہوئے بھی جتنی ممکن ہو جسمانی فاصلہ بندی برقرار رکھیں۔ مسافروں کو اس بات کی بھی یاد دہانی کروائی جاتی ہے کہ وہ سفر کرتے ہوئے اپنی ذاتی جراثیم کش، مثلاً ہینڈ سینیٹائزر یا وائپس اپنے ساتھ رکھیں، کثرت سے اپنے ہاتھ دھوئیں اور اپنی کہنی میں کھانسیں یا چھینکیں۔ اگر آپ بیمار ہوں، تو قریبی ترین کووڈ-19 اسیسمنٹ سائٹ سے ٹیسٹ کروائیں اور پبلک ہیلتھ کی ہدایات پر عمل کریں۔

باقاعدہ اپ ڈیٹس کے لیے www.brampton.ca/covid19 ملاحظہ کریں اور سروس اپ ڈیٹس کے لیے www.bramptontransit.com پر جائیں یا ٹویٹر پر [@bramptontransit](https://twitter.com/bramptontransit) کو فالو کریں۔ کسی قسم کے سوالات برامپٹن ٹرانزٹ کے کنٹیکٹ سنٹر سے 905.874.2999 پر پوچھے جا سکتے ہیں۔

برامپٹن پارکس

برامپٹن کے تمام ٹریلز، کھیلوں کے میدان اور پارکس بشمول آف لیش ڈاگ پارکس وکتوریہ ڈے کے موقع پر کھلے رہیں گے۔ صحت و تندرستی کے لیے جسمانی سرگرمی ہر کسی کے لیے نہایت اہم ہوتی ہے۔ اگر آپ اس ویب اینڈ پر برامپٹن کے کسی پارک میں جانا چاہتے ہیں، تو براہ کرم یاد رکھیں کہ اپنے گھرانے سے باہر کے لوگوں کے ساتھ 2 میٹر کا فاصلہ برقرار رکھیں اور اگر ایسا کرنا مشکل ہو، تو ماسک ضرور پہنیں۔ ہمارے پارکس اور ٹریلز کے بارے میں جاننے کے لیے، براہ کرم www.brampton.ca/parks ملاحظہ کریں۔

برامپٹن ریکرینیشن

گھر پر تفریح



آن لائن فٹنٹس اور کرافٹس ٹیوٹوریلز کے ذریعے گھر پر رہتے ہوئے فعال اور وابستہ رہیں! ایک فُل باڈی سرکٹ آزمائیں، اور ی گیمی ہرٹس بنانے کا طریقہ سیکھیں، اپنی کیلیگرافی کی مہارتوں میں نکھار پیدا کریں اور مزید بہت کچھ مختلف اقسام کی گھریلو سرگرمیوں کے حوالے سے www.brampton.ca/recathome پر جائیں۔

لاک ڈاؤن کے صوبائی اقدامات کی روشنی میں، سٹی آف برامپٹن کے تفریحی مراکز عارضی طور پر بند کر دیے گئے ہیں اور موجودہ طور پر انسٹرکٹر کی زیر نگرانی چلنے والے تفریحی پروگرام بھی معطل شدہ ہیں۔ ورچوئل پروگراموں اور سروسز کے بارے میں مزید معلومات کے لیے، براہ کرم www.brampton.ca/recreation ملاحظہ کریں۔

برامپٹن لائبریری

وکتوریہ ڈے کے موقع پر، برامپٹن لائبریری کے تمام [کرب سائیڈ پک اپ](#) مقامات بھی بند رہیں گے۔

ہماری ڈیجیٹل لائبریری کے بارے میں جاننے کے لیے، کسی بھی وقت [برامپٹن لائبریری ویب سائٹ](#) ملاحظہ کریں۔ اپنے لائبریری کارڈ کے ذریعے آپ ڈیجیٹل ای بکس، ای آڈیو بکس، ٹی وی اور مووی اسٹریمنگ، آن لائن لرننگ اور آرٹس و کرافٹس کے تدریسی اسباق اور مزید بہت سے مفید مواد تک مفت رسائی حاصل کر سکتے ہیں۔ [لائبریری کارڈ حاصل کرنے کے لیے](#)، براہ کرم [یہاں کلک کریں](#)۔ تمام شاخوں میں موجود 24 گھنٹے بیرونی ڈراپ باکسز کے ذریعے مستعار لیے ہوئے مواد کی واپسی کی آسان سہولت سے لطف اٹھائیں۔ رجسٹر کریں اور [کیلنڈر آف ایویٹنس](#) پر ہمارے ورچوئل پروگراموں میں شرکت کی منصوبہ بندی کریں اور ویڈیوز اسے لطف اٹھائیں، بشمول [برامپٹن لائبریری یوٹیوب صفحہ](#) پر ہفتہ وار ورچوئل سٹوری ٹائمز۔

آئیں رابطہ بڑھاتے ہیں! [ہماری ای میل ای ڈپٹس کے لیے سبسکرائب کریں](#) اور ہمیں [فیس بک](#)، [ٹویٹر](#)، اور [انسٹاگرام](#) پر فالو کریں۔

برامپٹن اینیمل سروسز

برامپٹن اینیمل شیلٹر وکتوریہ ڈے کے موقع پر بند رہے گا۔

اینیمل کنٹرول پیر تا جمعہ صبح 7 تا رات 10 بجے تک اور بروز ہفتہ اور اتوار اور چھٹیوں کے دنوں میں دن 8 تا شام 6:30 بجے تک سڑکوں پر موجود ہوتا ہے اور صرف درج ذیل کالوں پر ردعمل دے گا:

- بیمار/زخمی/جارحانہ گھریلو جانور اور جنگلی جانور کے اٹھانے کے لیے
- جارحانہ جانور
- آزاد بھاگنے والا کتا
- کتے کے کاٹنے کی تحقیق
- پکڑے جانے والے آوارہ کتے کو اٹھانا
- کسی مردہ جانور کو اٹھانا

اس اوقات کے علاوہ، اینیمل کنٹرول صرف ہنگامی حالات کا ردعمل دے گا۔

وکتوریہ ڈے ویک اینڈ کے حوالے سے پیل پبلک ہیلتھ کی جانب سے یاددہانیاں

بروز جمعرات مورخہ 20 مئی، بوقت صبح 9 بجے سے، 12 سال یا اس سے زائد العمر ایسے افراد جو پیل میں رہائش پذیر ہوں، یہاں پر کام کرتے ہوں یا اسکول جاتے ہوں، تو وہ پیل ریجن میں اپوائنٹمنٹ بک کرا سکتے ہیں۔ ایسے افراد بکنگ کرا سکیں گے جن کی عمر ویکسین لگوانے وقت 12 سال یا اس سے زیادہ ہو۔ عمر کے اس گروپ کے افراد کے لیے صرف فانزر (Pfizer) کی واحد ویکسین ہے جس کو ہیلتھ کیپینڈا کی جانب سے منظوری دی گئی ہے۔ ویکسین ریجن آف پیل کی ویب سائٹ کے ذریعے، یہاں سے بک کرائی جا سکتی ہے:

www.peelregion.ca/coronavirus/vaccine/book-appointment/

سب کی بہلائی کے لیے، لانگ ویک اینڈ کے دوران صرف ایسے افراد کے ساتھ وقت گزاریں، آپ جن کے ساتھ رہتے ہیں۔

یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ ویکسین لگوانے کا عمل جاری رہنے سے ہی مریضوں کی تعداد میں کمی واقع ہو سکے گی اور ہم عوامی صحت کے اقدامات میں نرمی کر سکیں گے۔



صحت عامہ کی ہدایات پر عمل کرنا اب بھی ہمارے لیے ایک بہترین دفاع ہے۔ اپنے گھر سے باہر رہنے والے خاندان کے لوگوں اور دوستوں کے لیے تصویریں بنائیں اور ان کے ساتھ ورچوئل کالز کا انتظام کریں تاکہ آپ کے روابط اور جسمانی فاصلہ بھی برقرار رہے۔

-30-

سٹی آف برامپٹن میڈیا کنٹیکٹ

مونیکا ڈوگال

کوآرڈینیٹر، میڈیا اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ

اسٹریٹیجک کمیونیکیشن

سٹی آف برامپٹن

905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca

ریجن آف پیل میڈیا کنٹیکٹ

ایشلے ہاکنز

کمیونیکیشنز اسپیشلسٹ – پبلک ہیلتھ

ریجن آف پیل

416.818.4421 | ashleigh.hawkins@peelregion.ca